

Tumi ha thetshelesi Khotsi awe. “Hurini,” hu amba Tumi.

Phaṭhu Tshiṇoni tsha Pheroṭhi tsha sa fhindle.

Hu na mini ngomu ha hoko ya Phaṭhu? Ndwevha i re na buse!

Tumi a i phumula ya kuna a i lidza.

“Hurini, muhulwane wanga,” hu amba Phaṭhu Tshiṇoni tsha Pheroṭhi, “Zwine na tama zwiraru ndi ndaela kha nṅe.”

Thumbuni ya Tumi hu a vhavha. O ḽa maḽegere manzhisa.

“Tumi! A thi koni u dzhena, muṅango u khou hana u vulea.”
Khotsi vho vhuya hayani. “Tumi, no amba na Phaṭhu Tshiṇoni tsha Pheroṭhi?”

Tumi o tshuwa.

“Ndi tama ...

Ndi na maḽegere oṭhe shangoni.”

DZULI DZULI!

“Ndi tama ...

Maḽegere aya a tshi nga ṭuwa oṭhe.”

DZULI DZULI!

Khotsi awe a vho ngo takala. “A ni thetsheseli. Ni a levha sa onoyu. Hu dzulela u vha na vhufhura nga tshinoni itshi.”



O eḁela mmbeteni wawe vhusiku honoho, Tumi a humbula, “Tshine nda tama tsha u fheleledza tshi fanela u vha tsha khwine.”

“Ndi tama ...

DZULI DZULI!



“Tumi!” Khotsi awe vha lavhelesa nnḁa nga fasiṽere. Zwine vha khou vhona fhedzi ndi lwanzhe. “No ita mini?”

Phaṽu Tshinoni tsha Pheroṽi tsha sea. “Tumi o tama arali vha tshi nga vha na miḁioni dza dzirannda u itela uri vha vhe na nnḁu khulu na uri a kone u dzula lufherani lwawe. U tou vha a songo bula uri ngafhi!”

Tumi na zwine a tama zwiraru

Tsho n̄waliwa nga Mabel Mnensa • Zwifanyiso nga Julie Smith-Belton

Zwine ha nga ambiwa nga hazwo

Ndi zwithu zwifhio zwiraru zwe na vha ni tshi nga tama u zwi ita?

Ni vhona u nga Tumi a nga vha o guda mini nga murahu ha lutamo lwawe lwa vhuraru? Lutamo ndi mini? Lutamo ri lu sika kana u lu thoma hani? Ndi nnyi a no fhindula lutamo lwashu?



Tshifanyiso

Olani tshifanyiso zwiraru zwine na vha na lutamo lwa u humbela kha Phathu.

U Vhala

Lavhelesani nga vhusedzi kha maipfi na tshifanyiso zwi re kha siaṭari ḷa u fhedza.

- ★ Lutamo lwa Tumi ya vhuraru ndi lufhio?
- ★ Shumisani tshifanyiso kha u wana zwidodombedzwa zwa zwe Phathu a nanga u fha Tumi.
- ★ Ni vhona u nga Tumi o ḡipfa hani musi a tshi sedza nṅa nga fasiṭere?
- ★ Ni vhona u nga o ita mini tshi no tevhela?




U N̄wala

Olani tshifanyiso tsha Tumi na Phathu tshi re na bulo ḷa mihumbulo ḷa muṅwe na muṅwe wavho. Kha bulo ḷa mihumbulo ḷa Tumi, n̄walani lutamo lwawe lwa vhuraru, ni thome nga maipfi haya: Ndi na lutamo ... Kha bulo ḷa mihumbulo ḷa Phathu, n̄walani zwe a ṅea Tumi, ni thome nga maipfi haya: Ndi vhona u nga ndi ḡo fha Tumi ...



Vhutsila

Shumisani khadibodo ya rolo ya thoiḷethipheipha kana rolo ya thavhula ya bammbiri kathihi na pennde, khokhi, guḷuu, mithenga, thishu ya muvhala kana bammbiri bwindi ḷa crêpe kha u ita khwamba (pherothi) ya vhuṭolo/ manditi yaṅu. Rinani khwamba yaṅu dzina.



Kushumele

Toololani tshiṭori tshine khatsho muanewadendele ha vha inwi. Itani na u dzhenisa lutamo lwaṅu vhudzuloni ha zwiraru zwa Tumi.

